

(پریس ریلیز) 2018-10-19

راولپنڈی () راولپنڈی ڈویلپمنٹ اتھارٹی (آرڈی اے) کے چے ئر مین محمد عارف عباسی سے راولپنڈی شادی ہال ایسوسیشن کے عہدہ دران کی میٹنگ ۔

آج مورخہ 19.10.2018 راولپنڈی شادی ہال ایسوسیشن کے ممبران نے چے ئر مین (آرڈی اے) سے اُنکے دفتر میں ملاقات کی ، ملاقات میں ڈائریکٹر (ل یو اینڈ بی سی)، ڈپٹی ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول اور شادی ہال ایسوسیشن کی طرف سے صدر ملک ظہور ایڈوکیٹ ، جنرل سیکٹری آصف اقبال ، شیخ عمران غفار و دیگر ممبران نے شرکت کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول آرڈی اے نے ملاقات کے دوران بتایا کہ آرڈی اے نے اپنے ایریا میں قائم شدہ تمام شادی ہالز/مارکیز کے مالکان کو نوٹسز جاری کئے کہ وہ اپنے منظور شدہ نقشہ جات آرڈی اے میں پیش کریں اور جو شادی ہال/مارکی بغیر منظوری کام کر رہے ہیں وہ اپنے بلڈنگ کو ریگولرائز کروائیں چنانچہ اس سلسلے میں شادی ہال ایسوسیشن مالکان نے چے ئرمین آرڈی اے سے ملاقات کا وقت لیا۔ صدر ایسوسیشن نے چے ئرمین آرڈی اے کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ٹائم دیا اور یقین دلایا کہ تمام ممبران آرڈی اے سے ہر طرح کا تعاون کرنے کیلئے تیار ہیں اور حکومتی ہدایت پر عمل کریں گے تاہم اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کسی کو بے جا تنگ نہ کیا جائے۔

چے ئرمین آرڈی اے نے یقین دلایا کہ وہ بعزت خود اور آرڈی اے کا عملہ کسی سے کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ چے ئرمین خود اس کام کی نگرانی کریں گے تاکہ کسی کو بلاوجہ ہراساں یا تنگ نہ کیا جائے۔ چے ئرمین صاحب نے آرڈی اے کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ تمام شادی ہالز کے مالکان سے فرداً فرداً ملاقات کریں اور ہر ایک کیس کو اُس کی نوعیت کے مطابق جانچ پڑتال کر کے چے ئرمین صاحب کو حتمی رپورٹ پیش کریں۔ اور آخر میں تمام ممبران نے چے ئرمین صاحب کا شکریہ ادا کیا۔